



دائرۃ الافتاء اہلسنت (دعوت اسلامی)

Dar-ul-ifta Ahl-e-sunnat



تاریخ: 09-09-2018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ریفرنس نمبر: Sar 6293

جانوروں کو آپس میں لڑوانا کیسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں کتوں اور مرغوں کا لڑائی میں مقابلہ کروایا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایۃ الحق والصواب

کتے، مرغے، بیل، بٹیر، تیتڑ اور دیگر جانوروں کو آپس میں لڑانا، ناجائز و گناہ ہے کہ یہ انہیں بلاوجہ ایذا پہنچاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا۔

(جامع ترمذی، ابواب الجہاد، ج 1، ص 433، مطبوعہ لاہور)

مذکورہ بالا حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ رحم فرمائے! آج مسلمانوں میں مرغ لڑانا، کتے لڑانا، اونٹ، بیل لڑانے کا بہت شوق ہے، یہ حرام، سخت حرام ہے کہ اس میں بلاوجہ جانوروں کو ایذا رسانی ہے، اپنا وقت ضائع کرنا۔ بعض جگہ مال کی شرط پر جانور لڑائے جاتے ہیں، یہ جو ابھی ہے، حرام در حرام ہے۔“

(مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ج 5، ص 659، مطبوعہ نعیمی کتب خانہ گجرات)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”(جانوروں کا) لڑانا مطلقاً ناجائز و گناہ ہے کہ بے سبب ایذا

بے گناہ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 643، مطبوعہ رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اللہ اعلم عزوجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کتبہ

المتخصص فی الفقہ الاسلامی

عبدالرب شاہ عطار مدنی

28 ذوالحجۃ الحرام 1439ھ / 09 ستمبر 2018ء

الجواب صحیح

ابو الصالح محمد قاسم قادری

خوف خدا و عشق مصطفیٰ کے حصول کیلئے ہر ہفتے کو عشا کی نماز کے بعد امیر اہل سنت کا ندھنی مذاکرہ دیکھنے سننے اور ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد عاشقان رسول کی ندنی تحریک، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں یہ نیت ثواب ساری رات گزارنے کی ندنی التجا ہے

نوٹ! دارالافتاء اہلسنت کی جانب سے وائرل ہونے والے کسی بھی فتوے یا تحریر کی تصدیق دارالافتاء اہلسنت کے آفیشل جج daruliftaahlesunnat کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

Dār al-Iftā Ahl al-Sunnah (Da'wat e Islami)

MAKING ANIMALS FIGHT AGAINST ONE ANOTHER

QUESTION:

What do the noble ulamā say regarding this, that in our area competitions are held where dog fighting and rooster fighting is arranged. Is this permissible according to the Sharī'ah?

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

In the name of Allāh the Most Beneficent, the Most Merciful

The answer, by the help of Allāh, The Owner, The Bestower. O Allāh guide us to the truth and that which is correct.

Making dogs, roosters, bulls, quails, partridges and other animals fight one another is impermissible and a sin because this is causing them harm without any reason and the Messenger of Allāh ﷺ forbade this. As is narrated by Sayyidunā 'Abdullah ibn 'Abbās (may Allāh be pleased with him):

“The Messenger of Allāh ﷺ forbade incitement [of fighting] between animals.”

[Jami' Tirmidhī Vol1 pg 433]

Hakīm al-Ummah Muftī Ahmad Yār Khān Na'imī (may Allāh shower him with mercy) has written beneath this hadith:

“May Allāh have mercy upon us. Nowadays there is a lot of love amongst Muslims for rooster, dog, camel and bull fighting. All of this is forbidden, intensely forbidden because in it is the causing of harm to animals without reason and wastage of one's time. In some places animals are made to fight with the condition of money, this which is happening now is harām upon harām.”

[Mir'āt al-Manājīh Vol 5 pg 659]

A'la Hazrat Imām Ahl al-Sunnah Imām Ahmad Ridā Khān (may Allāh shower him with mercy) writes:

“Causing animals to fight is absolutely forbidden and a sin because causing harm without a reason is a sin.”

[Fatāwā Ridwiyyah Vol 24 pg 643]

Allāh (Most Transcendent) Knows Best and His Messenger (ﷺ)

'Abd al-Rabb Shākir Ridā al-Attārī al-Madanī (Specialist in al-Fiqh al-Islāmī)

Affirmed by: Muftī Abū al-Sālih Muhammad Qāsim al-Qādirī

28th Dhul Hijjah al-Harām 1439 AH (9th September 2018)

Translated by: Mawlana Ibrar Shafi